

## شہر پیما حفاظتی ٹیکوں رجسٹری اور آپ کی رازداری

شہر پیما حفاظتی ٹیکہ جات رجسٹری کیا ہے؟  
شہر پیما حفاظتی ٹیکہ جات رجسٹری (CIR) ایک رازدارانہ ڈیٹا  
بیس ہے جس میں نیویارک سٹی میں مریضوں کو دیئے گئے ٹیکوں  
کے ریکارڈز ہوتے ہیں۔

### کیا میرے حفاظتی ٹیکہ کا ریکارڈ CIR میں ہونا میرے لیے ضروری ہے؟

فراہم کنندگان کے لیے 18 سال اور کم عمر کے مریضوں کی  
حفاظتی ٹیکوں کاری کا ریکارڈ CIR میں بھیجنا ضروری ہے۔  
19 سال اور زیادہ عمر کے افراد اپنی معلومات CIR میں شامل  
کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

### مجھے اپنی معلومات CIR میں کیوں رکھنی چاہیے؟

اپنے حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈز CIR میں رکھنے کے متعدد فوائد  
ہیں۔ CIR نیویارک کے باشندوں حفاظتی ٹیکوں کے ریکارڈز ایک  
مقام پر اکٹھا کرتا ہے تاکہ آپ اور آپ کے ڈاکٹروں کے علم میں  
رہے کہ آپ نے کون سے ٹیکے لے لئے ہیں اور کن حفاظتی ٹیکوں  
کی آپ کو ضرورت ہے۔ اگر آپ نئے فراہم کنندہ کے پاس جانا  
شروع کرتے ہیں یا اگر آپ کا ریکارڈ گم ہو جاتا ہے تو آپ CIR  
تک رسائی کر سکتے ہیں۔

## کون میرے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ یا میرے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے؟

آپ، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے فارماسسٹ، آپ کے بچے کا سکول یا کالج، آپ کا صحت بیمہ پلان اور بعض سوشل سروسز پروگرامز — جیسے کہ خواتین، نومولود اور بچے (WIC) — آپ کے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔

یہ جاننے کے لئے کہ اپنے یا اپنے بچے کے ریکارڈ تک رسائی کیسے کریں، [nyc.gov/myvaccinerecord](http://nyc.gov/myvaccinerecord) پر میرے حفاظتی ٹیکوں کا ریکارڈ دیکھیں یا 311 پر کال کریں۔

## کیا میرے CIR ریکارڈ کا استعمال امیگریشن کے نفاذ کے لیے کیا جا سکتا ہے؟

CIR میں آپ کا سوشل سیکیورٹی نمبر یا امیگریشن کی صورتحال شامل نہیں ہوتی۔ ریاست نیویارک کا قانون آپ کے CIR ریکارڈوں کی رازداری کا تحفظ کرتا ہے۔ نیویارک سٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ آپ کی صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ کہ آپ کی امیگریشن کی صورتحال کا۔ ہم تمام مریضوں کی رازداری کا احترام کرتے ہیں۔ اپنی ضرورت کی نگہداشت حاصل کریں۔

امدادی خدمات، جیسے کہ ActionNYC کے ذریعہ قانونی مدد کے بارے میں معلومات کے لیے 800-354-0365 یا 311 پر کال کریں۔ اپنے حقوق کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، [nyc.gov/immigrants](http://nyc.gov/immigrants) ملاحظہ کریں۔

